

سنیری مستقیم ریٹ ڈائرکٹ اکاؤنٹ کے لیے حقائق پر مبنی اہم بیان (01 جولائی 2025 سے مؤثر)			
برانچ	اہم ہدایت: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھولنے پر غور کر رہے ہیں تو اس دستاویز کو بغور پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں دستیاب ہے۔ آپ دوسرے بینکوں کے ذریعے پیش کردہ مختلف اکاؤنٹس کا موازنہ کرنے کے لیے بھی اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کے لیے دوسرے بینکوں کے ایف ایس وصول کرنے کا حق ہے۔		
شہر	اکاؤنٹ کی اقسام اور اس کی نمایاں خصوصیات: یہ معلومات مذکورہ تاریخ کے مطابق درست ہیں۔ خدمات، فیس اور منافع کے ریٹ ششماہی بنیاد پر تبدیل کیے جاسکتے ہیں۔ ہماری میعاد فی فیس / چارجز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.soneribank.com یا ہماری برانچ وزٹ کر سکتے ہیں۔		
تفصیلات		کرنٹ اکاؤنٹ	سیونگ اکاؤنٹ
کرنسی		پاکستانی روپے	پاکستانی روپے
اکاؤنٹ کے لیے کم سے کم بیلنس		0 روپے	0 روپے
اکاؤنٹ کی معینتیں فیس		قابل اطلاق نہیں	
کیا اکاؤنٹ پر منافع دیا جاتا ہے؟ قابل اطلاق ٹیکس کی شرح سے مشروط ہے۔			
منافع بخش اشارے (%) (سالانہ)			
منافع کی ادائیگی کی تعداد			
مثلاً 1000 روپے پہ آپ معین کردہ مدت میں۔۔۔ کما سکتے ہیں۔			
سنیری مستقیم ریٹ ڈائرکٹ اکاؤنٹ کے لیے حقائق پر مبنی اہم بیان (21 مئی 2025 سے مؤثر)			
سروس چارجز			
اہم ہدایت: یہ ان اکاؤنٹس کے لیے اہم سروس چارجز کی فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ مکمل فہرست آپ کو ہماری براہ تجزیہ ہماری ویب سائٹ پر مل سکتی ہے۔ برائے مہربانی نوٹ فرمائیں کہ تمام بینک چارجز قابل اطلاق ٹیکسوں کے علاوہ ہیں۔			
سروسز	اقسام	کرنٹ اکاؤنٹ	سیونگ اکاؤنٹ
کیش ٹرانزیکشن	اعترسی	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں
	اعترسی	0 روپے	0 روپے
	بینک کے اے ٹی ایم سے وڈڈرائل	0 روپے	0 روپے
	دیگر بینک کے اے ٹی ایم سے وڈڈرائل	-/35 روپے فی ٹرانزیکشن (بشمول FED)	-/35 روپے فی ٹرانزیکشن (بشمول FED)
	ایس ڈی سی / ڈیجیٹل / کلیئرنگ	0 روپے	0 روپے
ایس ایم ایس الارٹ	دیگر ٹرانزیکشن کے لیے	250 روپے ماہانہ۔ 0.80 ڈالر ماہانہ یا مساوی قارن کرنسی	250 روپے ماہانہ۔ 0.80 ڈالر ماہانہ یا مساوی قارن کرنسی
ڈیپٹ کارڈ (سالانہ چارجز)	ماسٹر کارڈ سٹیٹرزڈ	-/3,500 روپے	-/3,500 روپے
	ماسٹر کارڈ گوگلڈ	-/4,500 روپے	-/4,500 روپے
	پے پاک	مفت اجراء، البتہ ماہانہ اوسط بیلنس 25,000 روپے برقرار رکھنے کی بنیاد پر پہلے سالانہ چارج 0.7 روپے، اوسط بیلنس 25,000 روپے برقرار رکھنے کی بنیاد پر پہلے سالانہ چارج 0.7 روپے، اوسط بیلنس 25,000 روپے برقرار رکھنے کی بنیاد پر چارجز موجودہ شیڈول کے مطابق لاگو ہوں گے۔ اگلے سال سالانہ فیس شیڈول کے مطابق وصول کی جائے گی۔	مفت اجراء، البتہ ماہانہ اوسط بیلنس 25,000 روپے برقرار رکھنے کی بنیاد پر پہلے سالانہ چارج 0.7 روپے، اوسط بیلنس 25,000 روپے برقرار رکھنے کی بنیاد پر پہلے سالانہ چارج 0.7 روپے، اوسط بیلنس 25,000 روپے برقرار رکھنے کی بنیاد پر چارجز موجودہ شیڈول کے مطابق لاگو ہوں گے۔ اگلے سال سالانہ فیس شیڈول کے مطابق وصول کی جائے گی۔
	ماسٹر کارڈ پلائئم کا اجراء / سالانہ فیس / تجدیلی (بنیادی)	-/9,000 روپے	-/9,000 روپے
	ماسٹر کارڈ پلائئم کا اجراء / سالانہ فیس / تجدیلی (مثنیٰ)	-/6,000 روپے	-/6,000 روپے
	اجراء	10 لیف کی مفت چیک بک۔ ،بعد میں چیک بک 30 روپے فی لیف یا مساوی دیگر کرنسی	10 لیف کی مفت چیک بک۔ ،بعد میں چیک بک 30 روپے فی لیف یا مساوی دیگر کرنسی
	اسٹاپ بینٹ	کم سے کم 800 روپے فی چیک اور زیادہ سے زیادہ 1600 روپے فی انسٹرکشن (مختلف چیک کی صورت میں)	کم سے کم 800 روپے فی چیک اور زیادہ سے زیادہ 1600 روپے فی انسٹرکشن (مختلف چیک کی صورت میں)
ترسیلات زر (مثنیٰ)	بینکر چیک / پے آرڈر	500 روپے قلیٹ	500 روپے قلیٹ
	قارن ڈیماٹ ڈرافٹ	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں
ترسیلات زر (غیر مثنیٰ)	وائزرانسفر	قابل اطلاق نہیں	قابل اطلاق نہیں
	ششماہی / سالانہ	0 روپے	0 روپے
اکاؤنٹ کی معینت	تقل	35 روپے یا مساوی دیگر کرنسی (بشمول ایف ای ڈی)	35 روپے یا مساوی دیگر کرنسی (بشمول ایف ای ڈی)
	اے ڈی سی / ڈیجیٹل پیمل	0 روپے	0 روپے
فیڈ ٹرانسفر	آئی بی ٹی (IBFT)	25000 روپے تک 0 روپے، 25000 سے زائد 0.1% 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو (بشمول ایف ای ڈی)	25000 روپے تک 0 روپے، 25000 سے زائد 0.1% 200 روپے فی ٹرانزیکشن جو بھی کم ہو (بشمول ایف ای ڈی)
	ڈیجیٹل بینکنگ	فون / موبائل / انٹر بینکنگ سبکدوش (مبلی بار اور سالانہ)	0 روپے
کلیئرنگ	نارٹل	0 روپے	0 روپے
	اعترسی	350 روپے فی ٹرانزیکشن	350 روپے فی ٹرانزیکشن
	ای دی دن	600 روپے فی انسٹرومنٹ	600 روپے فی انسٹرومنٹ
	اکاؤنٹ کی بندش	کسٹمر کی درخواست	0 روپے

لازمی معلوم ہونا چاہیے

غیر دھرمی شدہ پازٹس: سیکنگ کیپیز (دھرمی) ایکٹ، 2024 کے سیکشن 31 کے تحت ہر تادم پازٹس جو گزشتہ 15 سال کے عرصے سے غیر فعال رہے ہیں، ماسوائے کے تابع یا کلومیٹیو کسی حد تک نام پر پازٹس، قانونی امور کی انجام دہی کے بعد متعلقہ تینکوں کی جانب سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ہر شدہ اولہ پازٹس متعلقہ تینکوں کے ذریعے تعلیم کیے جاسکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی اپنے متعلقہ براؤنچ سے رجوع کریں۔

اس اکاؤنٹ کی بندش: اپنا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے وخط شدہ اکاؤنٹ بندش کی درخواست استعمال شدہ پیپک اور ڈیٹ کارڈ (اگر کوئی ہوں) اپنے متعلقہ براؤنچ میں جمع کروائیں۔

برائے رابطہ: سیری ایبٹ لیڈ، سٹیٹ منجسٹریٹ، سسر اسپیس میڈیو پیارمنٹ، چلی منزل، اریم ہاؤس، ائی ای چندر میروڈ، لراچی

ای میل: complaints.suggestion@soneribank.com

کراچی سیکرٹریٹ، بینکنگ محاسب پاکستان
پانچویں منزل، شاہین کینکس، ایم آر کیانی روڈ، کراچی
ٹیلی فون نمبر: +922199217334
فکس: +922199217375

ای میل: info@bankingmohtasib.gov.pk

میں حقائق پر مبنی اس بیان کی وصولی اور اس کو بخوبی سمجھنے کا اعتراف کرتا ہوں

سفر کا نام:	تاریخ:
-------------	--------

مفتاح شده پروژکت: سنبری مستقیم ریخت ڈانزک کرنٹ اکاؤنٹ / سنبری مستقیم ریخت ڈانزک سیوجک اکاؤنٹ

	

	برائے رابطہ:	موبائل نمبر:	
--	--------------	--------------	--

	سفر کے دستخط
--	--------------